

ENGLISH

INDICATIONS FOR USE

Elbow conditions which may benefit from compression, such as;

- Elbow pain and swelling
- Medial and lateral epicondylitis (tennis/golfers elbow)

CONTRAINDIICATION

Must not be used by individuals for whom compression is contraindicated.

WARNINGS

- The brace should not be used for extended periods of time, and removed during long periods of rest, e.g. sleep.

- Patients with already compromised blood circulation in their extremities, like those with diabetes or peripheral vascular disease need to be extra careful, and are advised to consult with their doctor before using the brace. If you experience pain, swelling, sensation changes, or if your extremities show signs of insufficient blood flow (turning blue, white or cold) while using this brace, discontinue use immediately and consult with your medical professional.

- This product is designed to be worn directly on the skin. Never wear the brace directly over an open wound. Inspect your elbow and the brace before and after each use. If any problems occur related to use, please contact your certified medical professional.
- Contains natural rubber latex which may cause allergic reaction.

FRANÇAIS

PROBLÈMS AU COUDE QUI PEUVENT nécessiter une compression :

- Douleur ou gonflement du coude
- Épicondylite médiale ou latérale (tennis-elbow)

CONTRE-INDICATION

Ne pas utiliser chez les personnes pour lesquelles la compression est contre-indiquée.

AVERTISSEMENTS

- L'orthèse ne doit pas être utilisée pendant une durée prolongée ; elle doit être retirée pendant les longues périodes de repos (par ex. sommeil).

- Les patients souffrant de problèmes de circulation sanguine aux extrémités, comme ceux ayant du diabète ou une maladie artérielle périphérique, doivent prendre les précautions nécessaires et consulter leur médecin avant d'utiliser l'orthèse. Pendant le port de l'orthèse, si vous ressentez une douleur, un gonflement ou une sensation inhabituelle, ou si vos extrémités montrent des signes d'une circulation sanguine insuffisante (elles deviennent bleues, blanches ou froides), retirez immédiatement l'orthèse et consultez votre professionnel de santé.

• Ce produit est conçu pour être porté directement sur la peau. Ne mettez jamais l'orthèse sur une blessure ouverte. Avant et après chaque utilisation, inspectez votre coude et l'orthèse. En cas de problème pendant l'utilisation du produit, contactez immédiatement votre professionnel de santé.

- Contient du latex naturel qui peut causer une réaction allergique.

ESPAÑOL

INDICACIONES DE USO

Afecciones del codo a las que puede favorecer la compresión:

- Dolor e hinchazón del codo
- Epicondilitis medial y lateral (codo de tenista/golflista)

CONTRAINDICACIÓN

No deben utilizarlo personas para las que la compresión esté contraindicada.

ADVERTENCIAS

- El soporte no debe utilizarse durante periodos de tiempo prolongados ni quitarse durante largos periodos de reposo como, por ejemplo, durmiendo.

- Los pacientes con problemas de circulación sanguínea en sus extremidades, al igual que aquellos con diabetes o enfermedad vascular periférica deben extremar la precaución y consultar con su médico antes de usar el soporte. Si experimenta dolor, hinchazón, cambios en la sensibilidad, o si sus extremidades muestran signos de flujo sanguíneo insuficiente (se vuelven azules, blancas o frías), durante el uso de este soporte, interrumpa su uso de inmediato y consulte con su médico.

• Este producto se ha diseñado para ser colocado directamente sobre la piel. No use nunca el soporte directamente sobre una herida abierta. Inspeccione el codo y el soporte antes y después de cada uso.

ANWEISUNGEN ZUM ANLEGEN

- Wenn die erforderliche Größe in der Größentabelle zwischen zwei Größen liegt, wählen Sie für eine optimale Passform die kleinere Größe.
- Klappen Sie die Klettverschlussgurte zurück, um eine Beschädigung der Textilteile zu vermeiden.

- Dieses Produkt wurde entwickelt, um direkt auf der Haut getragen zu werden. Tragen Sie die Orthese niemals direkt über einer offenen Wunde.

LISTE DES MATÉRIAU

Caoutchouc, polyester, polyamide, élasthane, coton, polyuréthane, élastomères thermoplastiques à base de styrène-éthylène-butylène-styrène (TPE-SEBS)

Consignes d'entretien
Laver à cycle doux à 30°C maximum avec un détergent doux et faire sécher à l'air (ne pas utiliser de sèche-linge). Pour les orthèses avec des fermetures velcro, replier les bandes velcro sur elles-mêmes avant de laver l'orthèse pour ne pas endommager le tissu. Laver régulièrement l'orthèse pour conserver la tenue du tissu.

CHOIX DE LA TAILLE

- Si vous êtes entre deux tailles dans le tableau des tailles, choisissez toujours la taille la plus petite pour un ajustement optimal.
- Replier les bandes velcro sur elles-mêmes pour ne pas endommager le tissu.

uso. Si surge cualquier problema relacionado con el uso de este producto, póngase en contacto con su profesional médico certificado.

- Contiene látex de caucho natural, que puede causar una reacción alérgica.

LISTA DE MATERIALES

Goma, poliéster, poliamida, elastano, algodón, poliuretano, elastómeros termoplásticos basados en estireno-etileno-butileno-estireno (TPS-SEBS)

Instrucciones de mantenimiento
Lave en ciclo delicado a una temperatura máxima de 30°C con detergente suave y seque al aire (no secar con secadora). Para productos con velcro, fije el velcro a las cinchas antes del lavado para evitar que se estropee el tejido. Lave periódicamente para mantener la capacidad de compresión del tejido de punto.

Instrucciones de colocación
• Si su talla no coincide con ninguno de los tamaños incluidos en el gráfico de tallas, seleccione siempre la talla más pequeña para un ajuste óptimo.
• Para evitar que se estropee el tejido, doble las cinchas de velcro sobre sí mismas.

ITALIANO

INDICAZIONI PER L'USO

Condizioni del gomito che possono beneficiare della compressione, come:

- Dolore e gonfiore del gomito
- Epicondilitie laterale e mediale (gomito del tennista/golflista)

CONTROINDICAZIONI

Non deve essere usato da persone per le quali la compressione è controindicata.

ELENCO DEI MATERIALI

Gomma, polioste®re, poliammide, elastan, cotone, poliuretano, elastomeri termoplastici a base di stirene-etilene-butilene-stirene (TPS-SEBS)

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Lavare con un ciclo delicato ad un massimo di 30°C con detergente neutro ed asciugare all'aria (non asciugare in asciugatrice). Per i prodotti con Velcro fissare il Velcro sulla cinghia prima del lavaggio per evitare di danneggiare la maglia. Lavare regolarmente per preservare la compressione del tessuto in maglia.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Nel caso la misura cada tra due opzioni indicate nel grafico delle misure, selezionare sempre la misura più piccola per una vestibilità ottimale.
- Per evitare di danneggiare la maglia ripiegare le cinghie in Velcro su se stesse.

DANSK

INDIKATIONER FOR BRUG

Albueelilstande, hvor kompression med fordel kan anvendes, såsom:

- Smerte og hævelse i albuen
- Medial og lateral epicondylitis (tennis-/golf-albue)

KONTRAINDIKATION

Må ikke anvendes af personer, for hvem kompression er kontraindiceret.

ADVARSLER

- Bandagen må ikke anvendes i længere perioder ad gangen og skal fjernes under lange perioder med hvile, f.eks. søvn.

- Patienter, hos hvem blodcirkulationen i ekstremiteterne allerede er forringet, såsom patienter med diabetes eller perifer vaskulær sygdom, skal være ekstra forsigtige og anbefales at rådføre sig med lægen, før de bruger bandagen. Hvis du oplever smerter, hævelse, følelsesændringer, eller hvis dine ekstremiteter viser tegn på utilstrækkelig blodgennemstrømning (bliver blå, hvide eller kolde), mens du bruger denne bandage, skal du straks ophøre med at anvende den og rådføre dig med din læge.
- Dette produkt er designet til at være i direkte kontakt med huden.

SVENSKA

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Armbågstillstånd som kan förbättras av kompression, t.ex.:

- Smärta och svullnad i armbågen
- Medial och lateral epikondylit (golfarmbåge respektive tennisarmbåge)

MATERIALLISTE

Gummi, polyester, polyamid, elastan, bomull, polyuretan, styren-etylene-butylene-styren-baseret termoplastiske elastomerer (TPS-SEBS)

KONTRAINDIKATION

Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

VARNINGAR

- Ortosen bör inte användas under längre tidsperioder och ska tas av under längre perioder av vila, t.ex. när man sover.
- Patienter med redan nedsatt blodcirkulation i armar och ben, som vid diabetes eller åkåmror i det perifera kärlsystemet, måste vara extra försiktiga och rekommenderas att rådgöra med läkare innan användning av ortosen. Om du uplever smärta, svullnad, känsloförändringar, eller om kroppsdelen visar tecken på otillräckligt blodflöde (blir blå, vit eller kall) vid användning av ortosen, sluta omedelbart använda den och kontakta din läkare.
- Den här produkten är avsedd att bäras direkt mot huden. Använd aldrig ortosen direkt ovanpå ett öppet sår. Kontrollera din armbåge och ortosen före och efter varje användning. Om problem uppstår kontakta din läkare.

TILPASNINGSANVISNING

- Hvis du er mellem størrelser på størrelsesoversikten, skal du altid vælge den mindste størrelsen for optimal pasform.
- Lukk bórrelåsstroppene for å unngå skade på det strikkede materialet.

InstruKtioner för anpassning
• Om du hamnar mellan två storlekar i storlekstabellen ska du välja den mindre storleken för bästa passform.
• Vik tillbaka kårdborrbanden på sig själva för att undvika att fästytan skadas.

- Den här produkten är avsedd att bäras direkt mot huden. Använd aldrig ortosen direkt ovanpå ett öppet sår. Kontrollera din armbåge och ortosen före och efter varje användning. Om problem uppstår kontakta din läkare.

• Tämä tuote on suunniteltu

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Παθήσεις του αγκώνα στις οποίες η συμπίεση ενδέχεται να επιδρά θετικά, όπως:

- Πόνος και οίδημα του αγκώνα
- Μέση και πλευρική επικονδυλίτιδα (αγκώνια του tenista/του γκολφερ)

- Ιndeholder naturgummi-latex, som kan fremkalde allergisk reaktion.

LISTE OVER MATERIALER

Gummi, polyester, polyamid, elastan, bomuld, polyurethan, styren-etylen-butylen-styren-baserede termoplastiske elastomerer (TPS-SEBS)

VEDLIGEHOLDELSEVJEJLEDNING

Vaskes på skånsomt vaskeprogram ved maks. 30°C med mildt vaskemiddel. Skal lufttørres (må ikke tørretumbles). Ved produktet med velcro skal velcroen sættes fast på stropperne før vask for at undgå at beskadige det strikkede stof. Vask produktet jævnligt for at bevare det strikkede stofs kompressionsevne.

PÅSÆTNINGSVEJLEDNING

- Hvis din størrelse ligger mellem to størrelser på størrelsesoversigten, skal du altid vælge den mindste for at opnå optimal pasform.
- For at undgå at beskadige det strikkede stof skal velcrostropperne foldes sammen ind i sig selv.

i samband med användningen ska du kontakta läkare eller sjuksköterska.

- Inneholder naturgummilåteks, som kan forårsake en allergisk reaksjon.

pidettäväksi suoraan ihoa vasten. Älä koskaan käyttää tukeaa suoraan avohaavan päällä. Tarkasta kynnärpää ja tuki ennen ja jälkeen käytön. Jos ilmenee käyttöön liittyviä ongelmia, ota yhteyttä hoitoalan ammattilaiseen.

FÖRTECKNING ÖVER MATERIAL
Gummi, polyester, polyamid, elastan, bomull, polyuretan, termoplastiska elastomerer av styren-eten-buten-styren (TPE-SEBS)

SKÖTSELRÅD
Tvätta med ett mild tvättprogram vid högst 30°C med ett mild tvättmedel och lät lufttorka (torktumla inte). Om produkterna har kårdborrband ska kårdborrbandet fästas på remmarna innan produkten tvättas för att undvika att fästytan skadas. Tvätta produkten regelbundet för att behålla kompressionen i det stickade materialet.

MATERIAALIUETELE
Kumi, polyester, polyamidi, elastaani, puuvilliä, polyuretaani, styreeni-etylenei-butyleeni-styreeniin perustuva termoplastinen elastomeeri (TPS-SEBS)

HOITO-OHJEET
Pese hellävaraisella ohjelmalla enintään 30°C:ssa, käytä mietaoa puhdistusainetta ja anna kuivua itsestään (älä käytä kuivausrumpua). Jos tuote sisältää tarrauhauha, kiinnitä tarrauhauha ennen pesua, jotta se ei vahingoita neuloksia. Pese säännöllisesti ylläpitääkäsesi neuloksen kompressiota.

PUKEMINEN

- Jos kokosi on kokotaulukon kahden koon välissä, valitse aina pienempi koko ihanteellisen tiukkuuden saavuttamiseksi.
- Vältä neuloksen vahingoittuminen sulkemalla tarrauhahiinnitykset.

νόρθκα απευθείας πάνω σε αρθρώση πλρηγή. Επιθεωρήσητε του αγκώνα σας και το νάρθρηκα πριν και μετά από κάθε χρήση. Αν προκύψουν τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση, επικοινωνήσητε με του πιστοποιημένου ιατρού σας.

- Περιέχει λάτεξ φυσικού καουτσούκ, που ενδέχεται να προκαλέση αλλεργική αντίδραση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα για τα οποία αντενδείκνυται η συμπίεση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Ο νάρθρηκας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονικά διαστήματα. Θα πρέπει επίσης να αφαιρείται κατά τη διάρκεια μεγάλων διαστημάτων ανάπαυσης, π.χ. στον ύπνο.
- Οι ασθενείς με ήδη προβληματική κυκλοφορία του αίματος στα άκρα τους, όπως άτομα με διαβήτη ή περιφερική αγγειακή νόσο, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και να συμβουλευτούν το γιατρό τους πριν από τη χρήση του νάρθρηκα. Εάν αισθανθείτε πόνο, οίδημα, αλλαγές στην αίσθηση ή αν τα άκρα σας δείχνουν σημάδια ανεπαρκούς ροής του αίματος (γίνονται μπλε, λευκά ή κρύα) ενώ χρησιμοποιείτε αυτόν το νάρθρηκα, διακόψτε τη χρήση του αμέσως και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να φοριέται απευθείας στο δέρμα. Πιτέ μην φοράτε το

SUOMI

Käynnärpääongelmat, joihin kompressio voi auttaa, esimerkiksi:

- Käynnärpään kipu ja turvotus
- Mediaalinen ja lateraalinen epikondyliitti (tennis käynnärpää).

pidettäväksi suoraan ihoa vasten. Älä koskaan käytä tukeaa suoraan avohaavan päällä. Tarkasta kynnärpää ja tuki ennen ja jälkeen käytön. Jos ilmenee käyttöön liittyviä ongelmia, ota yhteyttä hoitoalan ammattilaiseen.

FÖRTECKNING ÖVER MATERIAL
Gummi, polyester, polyamid, elastan, bomull, polyuretan, termoplastiska elastomerer av styren-eten-buten-styren (TPE-SEBS)

SKÖTSELRÅD
Tvätta med ett mild tvättprogram vid högst 30°C med ett mild tvättmedel och lät lufttorka (torktumla inte). Om produkterna har kårdborrband ska kårdborrbandet fästas på remmarna innan produkten tvättas för att undvika att fästytan skadas. Tvätta produkten regelbundet för att behålla kompressionen i det stickade materialet.

MATERIAALIUETELE
Kumi, polyester, polyamidi, elastaani, puuvilliä, polyuretaani, styreeni-etylenei-butyleeni-styreeniin perustuva termoplastinen elastomeeri (TPS-SEBS)

HOITO-OHJEET
Pese hellävaraisella ohjelmalla enintään 30°C:ssa, käytä mietaoa puhdistusainetta ja anna kuivua itsestään (älä käytä kuivausrumpua). Jos tuote sisältää tarrauhauha, kiinnitä tarrauhauha ennen pesua, jotta se ei vahingoita neuloksia. Pese säännöllisesti ylläpitääkäsesi neuloksen kompressiota.

PUKEMINEN

- Jos kokosi on kokotaulukon kahden koon välissä, valitse aina pienempi koko ihanteellisen tiukkuuden saavuttamiseksi.
- Vältä neuloksen vahingoittuminen sulkemalla tarrauhahiinnitykset.

NEDERLANDS

GEBRUIKSINDICATIES

Elleboogaandoeningen die baat kunnen hebben bij compressie, zoals:

- Elleboogpijn en zwelling
- Mediale en laterale epicondylitis (tennis-/golferselleboog)

CONTRA-INDICATIE

Mag niet worden gebruikt door personen bij wie compressie is gecontra-indiceerd.

WAARSCHUWINGEN

- De brace mag niet te lang achtereen worden gedragen en moet tijdens langere rustperiodes, zoals slaap, worden verwijderd.

- Patiënten met een reeds gecompromitteerde bloedsomloop in de ledematen, zoals bij diabetes of perifere vaatziekte, moeten extra voorzichtig zijn en wordt geadviseerd te overleggen met hun arts voordat ze de brace gebruiken. Als tijdens het gebruik van deze brace pijn of zwelling optreedt, u verandering van gevoel ervaart of uw ledematen tekenen vertonen van onvoldoende bloedtoevoer (blauw, wit of koud worden), stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleef uw arts.

- Dit product is ontworpen om directstreeks op de huid te worden gedragen. Draag de brace nooit rechtstreeks op een open wond.

PORTUGUÊS

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Patologias do cotovelo que poderão beneficiar dos efeitos da compressão, tais como:

- Dor e inchaço do cotovelo
- Epicondilite medial e lateral (cotovelo do tenista/golflista)

Käynnärpääongelmat, joihin kompressio voi auttaa, esimerkiksi:

- Käynnärpään kipu ja turvotus
- Mediaalinen ja lateraalinen epikondyliitti (tennis käynnärpää).

pidettäväksi suoraan ihoa vasten. Älä koskaan käytä tukeaa suoraan avohaavan päällä. Tarkasta kynnärpää ja tuki ennen ja jälkeen käytön. Jos ilmenee käyttöön liittyviä ongelmia, ota yhteyttä hoitoalan ammattilaiseen.

MATERIAALIUETELE
Kumi, polyester, polyamidi, elastaani, puuvilliä, polyuretaani, styreeni-etylenei-butyleeni-styreeniin perustuva termoplastinen elastomeeri (TPS-SEBS)

HOITO-OHJEET
Pese hellävaraisella ohjelmalla enintään 30°C:ssa, käytä mietaoa puhdistusainetta ja anna kuivua itsestään (älä käytä kuivausrumpua). Jos tuote sisältää tarrauhauha, kiinnitä tarrauhauha ennen pesua, jotta se ei vahingoita neuloksia. Pese säännöllisesti ylläpitääkäsesi neuloksen kompressiota.

PUKEMINEN

- Jos kokosi on kokotaulukon kahden koon välissä, valitse aina pienempi koko ihanteellisen tiukkuuden saavuttamiseksi.
- Vältä neuloksen vahingoittuminen sulkemalla tarrauhahiinnitykset.

WOLSKANI

Elleboogaandoeningen die baat kunnen hebben bij compressie, zoals:

- Elleboogpijn en zwelling
- Mediale en laterale epicondylitis (tennis-/golferselleboog)

CONTRA-INDICATIE

Mag niet worden gebruikt door personen bij wie compressie is gecontra-indiceerd.

WAARSCHUWINGEN

- De brace mag niet te lang achtereen worden gedragen en moet tijdens langere rustperiodes, zoals slaap, worden verwijderd.

- Patiënten met een reeds gecompromitteerde bloedsomloop in de ledematen, zoals bij diabetes of perifere vaatziekte, moeten extra voorzichtig zijn en wordt geadviseerd te overleggen met hun arts voordat ze de brace gebruiken. Als tijdens het gebruik van deze brace pijn of zwelling optreedt, u verandering van gevoel ervaart of uw ledematen tekenen vertonen van onvoldoende bloedtoevoer (blauw, wit of koud worden), stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleef uw arts.

- Dit product is ontworpen om directstreeks op de huid te worden gedragen. Draag de brace nooit rechtstreeks op een open wond.

PORTUGUÊS

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Patologias do cotovelo que poderão beneficiar dos efeitos da compressão, tais como:

- Dor e inchaço do cotovelo
- Epicondilite medial e lateral (cotovelo do tenista/golflista)

Käynnärpääongelmat, joihin kompressio voi auttaa, esimerkiksi:

- Käynnärpään kipu ja turvotus
- Mediaalinen ja lateraalinen epikondyliitti (tennis käynnärpää).

pidettäväksi suoraan ihoa vasten. Älä koskaan käytä tukeaa suoraan avohaavan päällä. Tarkasta kynnärpää ja tuki ennen ja jälkeen käytön. Jos ilmenee käyttöön liittyviä ongelmia, ota yhteyttä hoitoalan ammattilaiseen.

MATERIAALIUETELE
Kumi, polyester, polyamidi, elastaani, puuvilliä, polyuretaani, styreeni-etylenei-butyleeni-styreeniin perustuva termoplastinen elastomeeri (TPS-SEBS)

HOITO-OHJEET
Pese hellävaraisella ohjelmalla enintään 30°C:ssa, käytä mietaoa puhdistusainetta ja anna kuivua itsestään (älä käytä kuivausrumpua). Jos tuote sisältää tarrauhauha, kiinnitä tarrauhauha ennen pesua, jotta se ei vahingoita neuloksia. Pese säännöllisesti ylläpitääkäsesi neuloksen kompressiota.

PUKEMINEN

- Jos kokosi on kokotaulukon kahden koon välissä, valitse aina pienempi koko ihanteellisen tiukkuuden saavuttamiseksi.
- Vältä neuloksen vahingoittuminen sulkemalla tarrauhahiinnitykset.

POLSKANI

Elleboogaandoeningen die baat kunnen hebben bij compressie, zoals:

- Elleboogpijn en zwelling
- Mediale en laterale epicondylitis (tennis-/golferselleboog)

CONTRA-INDICATIE

Mag niet worden gebruikt door personen bij wie compressie is gecontra-indiceerd.

WAARSCHUWINGEN

- De brace mag niet te lang achtereen worden gedragen en moet tijdens langere rustperiodes, zoals slaap, worden verwijderd.

- Patiënten met een reeds gecompromitteerde bloedsomloop in de ledematen, zoals bij diabetes of perifere vaatziekte, moeten extra voorzichtig zijn en wordt geadviseerd te overleggen met hun arts voordat ze de brace gebruiken. Als tijdens het gebruik van deze brace pijn of zwelling optreedt, u verandering van gevoel ervaart of uw ledematen tekenen vertonen van onvoldoende bloedtoevoer (blauw, wit of koud worden), stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleef uw arts.

- Dit product is ontworpen om directstreeks op de huid te worden gedragen. Draag de brace nooit rechtstreeks op een open wond.

a pele. Nunca utilize a ortótese diretamente sobre uma ferida aberta. Inspeccione o cotovelo e a ortótese antes e depois de cada utilização. Se ocorrer algum problema relacionado com a utilização, contacte o seu profissional de saúde devidamente habilitado.

- Contém látex de borracha natural que poderá provocar uma reação alérgica.

ČESKÝ

INDIKACE POUŽITÍ

Onemocnění lokte, pro která může být prospěšné použít kompresi jako např.:

- Bolesti a otok lokte
- Mediální a laterální epikondylitida (tenisový/golfový loket)

- Tento výrobek je určen k aplikaci přímo na kůži. Nikdy nenoste ortézu přes otevřený poranění. Před každým použitím a po něm zkontrolujte svůj loket a ortézu. Pokud u souvislosti s používáním nastane jakýkoliv problém, kontaktujte prosím svého kvalifikovaného odborného lékaře.
- Obsahuje přírodní kaučuk, který může vyvolat alergickou reakci.

Стирать в щадящем режиме максимум при 30°С мягким порошком, сушить на воздухе (не сушить в стиральной машине).
Перед стиркой изделий с текстильной застежкой зафиксируйте застежки ремешками, чтобы не повредить переплетение.
Стирайте регулярно, чтобы сохранялся сжатие переплетения материала.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕРКЕ

- Если вашего точного размера в размерной таблице нет, то для оптимального результата выберите меньший размер из двух промежуточных размеров в таблице.
- Чтобы не повредить переплетение, отогните и зафиксируйте текстильные застежки.

한국말

사용 예시

팔꿈치요법으로 효과를 볼 수 있는 팔꿈치 질환은 다음과 같습니다.

- 팔꿈치 붓종 및 부종
- 내측 및 외측 상과염(테니스/골프 팔꿈치)

금기사항

팔꿈치요법이 금지된 분은 개별적으로 사용하지 마십시오.

경고

- 제품을 장시간 사용하지 마시고, 휘질 시와 같이 장시간 사용하지 않을 경우 벗어 놓습니다.
- 당뇨나 말초 혈관 질환과 같은 팔다리의 혈액 순환에 문제가 있는 것으로 판명된 환자의 경우 사용 시 각별한 주의를 요하며 사용 전에 의사와 상담하는 것이 좋습니다. 사용 도중 통증, 부종, 감각 변화나 신체에 혈류 부족 현상(푸른색이나 흰색을 띠거나 차가워지는 경우)이 나타나는 경우, 즉시 사용을 중단하고 의료 전문가에게 상담하십시오.

- 당뇨나 말초 혈관 질환과 같은 팔다리의 혈액 순환에 문제가 있는 것으로 판명된 환자의 경우 사용 시 각별한 주의를 요하며 사용 전에 의사와 상담하는 것이 좋습니다. 사용 도중 통증, 부종, 감각 변화나 신체에 혈류 부족 현상(푸른색이나 흰색을 띠거나 차가워지는 경우)이 나타나는 경우, 즉시 사용을 중단하고 의료 전문가에게 상담하십시오.
- 이 제품은 피부에 직접 착용하도록 설계되었습니다. 상처가 있는 부위에 직접 착용하지 마십시오. 사용 후후 팔꿈치와 제품의 상태를 확인하십시오. 이

착용법

- 사이즈 차트의 중간 사이즈일 경우 적절한 착용을 위해 항상 작은 지수를 선택하십시오.
- 벨크로 끈의 뒤쪽을 겹쳐서 접으면 니트의 손상을 방지할 수 있습니다.

SLOVENČINA

INDIKÁCIE POUŽITIA
Ochorenia laktá, u ktorých je možné s výhodou použiť kompresiu, ako napr.:

- Bolesti a opuchnutie laktá
- Mediálna a laterálna epikondylitída (tenisový/golfový lakť)

KONTRAINDIKÁCIE
Produkt je zakázané používať u osôb, u ktorých je kompresia kontraindikovaná.

VAROVANIA

- Ortézu nepoužívajte po dlhšiu dobu. Na dlhšie obdobie bez záťaž (napr. spánok) ju snímajte. Pacienti s už obmedzeným krvným obehom v svojich končatinách, rovnako ako s cukrovkou alebo ochorením periférnych ciev musia byť veľmi opatrní a poradiť so svojím lekárom pred použitím ortézy. Ak cítite bolesť, máte opuchy a zmeny pociťu alebo ak vaše končatiny vykazujú známky nedostatočného prietoku krvi (sú modré, biele alebo studené) pri používaní tejto ortézy, okamžite ju prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom.
- Tento výrobok je určený na nosenie priamo na koži. Nikdy nenoste ortézu priamo na otvorenej rane. Skontrolujte lakte a ortézu pred každým použitím a po ňom. Ak sa v súvislosti s používaním vyskytujú

EESTI KEEL

KASUTUSNÄIDUSTUSED
Kompresioonist kasu saada võivad küünarliigeseperioobid, näiteks:

- Küünarliigesevalu ja -paistetused
- Mediálne ja lateraalse epikondüüli (tennisist/golfimängija küünarliiges)

VASTUNÄIDUSTUS

Ei tohi kasutada need inimesed, kelle jaoks on kompressioon vastunäidustatud.

HOIATUSED

- Ortoosi ei tohi kasutada pikema perioodi vältel ja selle peaks eemaldama pikadeks puhkuseperioodideks, nt uneajaks.
- Näsete ohusatud vereringega, jäsemete diabeedi või perifeersetes vereosote haigusega patsiendid peavad olema eriti ettevaatlikud ja enne ortoosi kasutamist soovitatakse neil konsulteerida oma arstiga. Kui teil tekib seda ortoosi kasutades valu, tursed, tundlikkuse muutused või kui teie jäsemetel tekivad ebapiisava verevarustuse märgid (siniseks, valgeks või külmaks muutumine), lõpetage kohe ortoosi kasutamine ja konsulteerige oma meditsiiniõetajaga.
- See toode on ette nähtud kasutamiseks kontaktis nahaga. Ärge kandke kunagi ortoosi otse

ROMÂNĂ

INDICAȚII DE UTILIZARE

Printre afecțiunile cotului care pot fi ameliorate prin compresie se numără:

- Durerile și inflamațiile la nivelul cotului
- Epicondilita medială și laterală (cotul tenismenului/al jucătorului de golf)

ZOZNAM MATERIÁLOV

Guma, polyester, polyamid, elastán, bavlna, polyuretán, termoplastické elastoméry na báze styrén-etylén-butylén-styrénu (TPS-SEBS)

NÁVOD NA OŠETROVANIE

Umyte v jemnom cýkle pri teplote do 30°C so slabým detergentom a vysušte na vzduchu (nesušte v sušičke). Na výrobkoch so suchým zipsom je nutné popruhy so suchým zipsom pred umývaním zaistiť, aby ste materiál nepoškodili. Umývajte pravidelne, udržte tak kompresívne vlastnosti pletenejho materiálu.

NÁVOD NA NASADENIE

- Ak má pacient veľkosť nachádzajúcu sa v tabuľke medzi dostupnými veľkosťami, vždy zvolte menšiu, aby výrobok optimálne dosadal.
- Namotajte popruhy so suchým zipsom na seba, aby nedošlo k poškodeniu materiálu.

العربية

دواعي الاستخدام

حالات إصابة الكوع التي قد تستفيد من الضغط، مثل:

- الألم والتوريم في الكوع
- التهاب لقيمة العضد الوسطى والجانبية (كوع لابي التنس/الجولف)

موانع الاستعمال

يجب ألا يتم استخدامها من قبل الأفراد الذين يتمتعهم الضغط من ذلك.

تحذيرات

- ينبغي عدم استخدام الدعامة لفترات زمنية طويلة، وخليعها خلال فترات الراحة الطويلة، على سبيل المثال، أثناء النوم.

على المرضى الذين يعانون بالفعل من خلل في الدورة الدموية في أطرافهم، مثل الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية أن يكونوا أكثر حذرًا ويُنصح أن يتشاوروا مع الطبيب قبل استخدام الدعامة. إذا شعرت بألم أو توريم أو تغيرات في الإحساس أو إذا ظهرت على الطرف علامات على تدفق غير كافي للدم (التحول إلى اللون الأزرق أو الأبيض أو البرودة) أثناء استخدام هذه الدعامة، عليك التوقف عن استخدامها على الفور والتشاور مع طبيبك.

تعليمات الإرتداء

- إذا كان مفاصك ما بين جحمين على مخطط الأحجام، اختر دلتًا الحجر الأصغر لافضل ارتداء.
- لتجنب إتلاف نسيج التريكو، قمر بطي أشرطة الفيلكرو مرة أخرى على نفسها.

SOBITAMISUJUHEND

- Suurustabeli kahe suuruse vahel olles valida optimaalseks sobivuseks alati väiksem suurus.
- Kootud kanga kahjustamise vältimiseks asetage takjakinneise rihmad oma kohtadele tagasi.

ROMÂNĂ

INDICAȚII DE UTILIZARE

Printre afecțiunile cotului care pot fi ameliorate prin compresie se numără:

- Durerile și inflamațiile la nivelul cotului
- Epicondilita medială și laterală (cotul tenismenului/al jucătorului de golf)

CONTRAINDICAȚII

Produsul nu trebuie utilizat de persoane în cazul căroro compresia este contraindicată.

AVERTISMENTE

Orteza nu trebuie utilizată pentru perioade îndelungate de timp și trebuie scoasă pe parcursul perioadelor mai lungi de odihnă, de exemplu, în timpul somnului.

- Pacienții cu circulația sângelui deja compromisă la nivelul extremităților, cum ar fi cei cu diabet zaharat sau boli vasculare periferice, trebuie sa fie foarte atenți și sunt sfătuiți să consulte medicul înainte de a utiliza orteza. Dacă prezențați dureri, umflături, modificări de senzație sau în cazul în care extremitățile dvs. prezintă semne de flux sanguin insuficient (devin albastre, albe sau reci), în timp ce utilizați această orteză, întrerupeți utilizarea imediat și consultați specialistul medical.
- Acest produs este conceput pentru a fi purtat direct pe piele. Nu purtați orteza direct peste o rană

العربية

دواعي الاستخدام

حالات إصابة الكوع التي قد تستفيد من الضغط، مثل:

- الألم والتوريم في الكوع
- التهاب لقيمة العضد الوسطى والجانبية (كوع لابي التنس/الجولف)

موانع الاستعمال

يجب ألا يتم استخدامها من قبل الأفراد الذين يتمتعهم الضغط من ذلك.

تحذيرات

- ينبغي عدم استخدام الدعامة لفترات زمنية طويلة، وخليعها خلال فترات الراحة الطويلة، على سبيل المثال، أثناء النوم.

على المرضى الذين يعانون بالفعل من خلل في الدورة الدموية في أطرافهم، مثل الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية أن يكونوا أكثر حذرًا ويُنصح أن يتشاوروا مع الطبيب قبل استخدام الدعامة. إذا شعرت بألم أو توريم أو تغيرات في الإحساس أو إذا ظهرت على الطرف علامات على تدفق غير كافي للدم (التحول إلى اللون الأزرق أو الأبيض أو البرودة) أثناء استخدام هذه الدعامة، عليك التوقف عن استخدامها على الفور والتشاور مع طبيبك.

تعليمات الإرتداء

- إذا كان مفاصك ما بين جحمين على مخطط الأحجام، اختر دلتًا الحجر الأصغر لافضل ارتداء.
- لتجنب إتلاف نسيج التريكو، قمر بطي أشرطة الفيلكرو مرة أخرى على نفسها.

SOBITAMISUJUHEND

- Suurustabeli kahe suuruse vahel olles valida optimaalseks sobivuseks alati väiksem suurus.
- Kootud kanga kahjustamise vältimiseks asetage takjakinneise rihmad oma kohtadele tagasi.

ROMÂNĂ

INDICAȚII DE UTILIZARE

Printre afecțiunile cotului care pot fi ameliorate prin compresie se numără:

- Durerile și inflamațiile la nivelul cotului
- Epicondilita medială și laterală (cotul tenismenului/al jucătorului de golf)

CONTRAINDICAȚII

Produsul nu trebuie utilizat de persoane în cazul căroro compresia este contraindicată.

AVERTISMENTE

Orteza nu trebuie utilizată pentru perioade îndelungate de timp și trebuie scoasă pe parcursul perioadelor mai lungi de odihnă, de exemplu, în timpul somnului.

- Pacienții cu circulația sângelui deja compromisă la nivelul extremităților, cum ar fi cei cu diabet zaharat sau boli vasculare periferice, trebuie sa fie foarte atenți și sunt sfătuiți să consulte medicul înainte de a utiliza orteza. Dacă prezențați dureri, umflături, modificări de senzație sau în cazul în care extremitățile dvs. prezintă semne de flux sanguin insuficient (devin albastre, albe sau reci), în timp ce utilizați această orteză, întrerupeți utilizarea imediat și consultați specialistul medical.
- Acest produs este conceput pentru a fi purtat direct pe piele. Nu purtați orteza direct peste o rană

العربية

دواعي الاستخدام

حالات إصابة الكوع التي قد تستفيد من الضغط، مثل:

- الألم والتوريم في الكوع
- التهاب لقيمة العضد الوسطى والجانبية (كوع لابي التنس/الجولف)

موانع الاستعمال

يجب ألا يتم استخدامها من قبل الأفراد الذين يتمتعهم الضغط من ذلك.

تحذيرات

- ينبغي عدم استخدام الدعامة لفترات زمنية طويلة، وخليعها خلال فترات الراحة الطويلة، على سبيل المثال، أثناء النوم.

على المرضى الذين يعانون بالفعل من خلل في الدورة الدموية في أطرافهم، مثل الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية أن يكونوا أكثر حذرًا ويُنصح أن يتشاوروا مع الطبيب قبل استخدام الدعامة. إذا شعرت بألم أو توريم أو تغيرات في الإحساس أو إذا ظهرت على الطرف علامات على تدفق غير كافي للدم (التحول إلى اللون الأزرق أو الأبيض أو البرودة) أثناء استخدام هذه الدعامة، عليك التوقف عن استخدامها على الفور والتشاور مع طبيبك.

تعليمات الإرتداء

- إذا كان مفاصك ما بين جحمين على مخطط الأحجام، اختر دلتًا الحجر الأصغر لافضل ارتداء.
- لتجنب إتلاف نسيج التريكو، قمر بطي أشرطة الفيلكرو مرة أخرى على نفسها.

SOBITAMISUJUHEND

Suurustabeli kahe suuruse vahel olles valida optimaalseks sobivuseks alati väiksem suurus.

Kootud kanga kahjustamise vältimiseks asetage takjakinneise rihmad oma kohtadele tagasi.

Orteza nu trebuie utilizată pentru perioade îndelungate de timp și trebuie scoasă pe parcursul perioadelor mai lungi de odihnă, de exemplu, în timpul somnului.

Pacienții cu circulația sângelui deja compromisă la nivelul extremităților, cum ar fi cei cu diabet zaharat sau boli vasculare periferice, trebuie sa fie foarte atenți și sunt sfătuiți să consulte medicul înainte de a utiliza orteza. Dacă prezențați dureri, umflături, modificări de senzație sau în cazul în care extremitățile dvs. prezintă semne de flux sanguin insuficient (devin albastre, albe sau reci), în timp ce utilizați această orteză, întrerupeți utilizarea imediat și consultați specialistul medical.

Acest produs este conceput pentru a fi purtat direct pe piele. Nu purtați orteza direct peste o rană

العربية

دواعي الاستخدام

حالات إصابة الكوع التي قد تستفيد من الضغط، مثل:

- الألم والتوريم في الكوع
- التهاب لقيمة العضد الوسطى والجانبية (كوع لابي التنس/الجولف)

موانع الاستعمال

يجب ألا يتم استخدامها من قبل الأفراد الذين يتمتعهم الضغط من ذلك.

تحذيرات

- ينبغي عدم استخدام الدعامة لفترات زمنية طويلة، وخليعها خلال فترات الراحة الطويلة، على سبيل المثال، أثناء النوم.

على المرضى الذين يعانون بالفعل من خلل في الدورة الدموية في أطرافهم، مثل الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية أن يكونوا أكثر حذرًا ويُنصح أن يتشاوروا مع الطبيب قبل استخدام الدعامة. إذا شعرت بألم أو توريم أو تغيرات في الإحساس أو إذا ظهرت على الطرف علامات على تدفق غير كافي للدم (التحول إلى اللون الأزرق أو الأبيض أو البرودة) أثناء استخدام هذه الدعامة، عليك التوقف عن استخدامها على الفور والتشاور مع طبيبك.

تعليمات الإرتداء

- إذا كان مفاصك ما بين جحمين على مخطط الأحجام، اختر دلتًا الحجر الأصغر لافضل ارتداء.
- لتجنب إتلاف نسيج التريكو، قمر بطي أشرطة الفيلكرو مرة أخرى على نفسها.

SOBITAMISUJUHEND

Suurustabeli kahe suuruse vahel olles valida optimaalseks sobivuseks alati väiksem suurus.

Kootud kanga kahjustamise vältimiseks asetage takjakinneise rihmad oma kohtadele tagasi.

Orteza nu trebuie utilizată pentru perioade îndelungate de timp și trebuie scoasă pe parcursul perioadelor mai lungi de odihnă, de exemplu, în timpul somnului.

Pacienții cu circulația sângelui deja compromisă la nivelul extremităților, cum ar fi cei cu diabet zaharat sau boli vasculare periferice, trebuie sa fie foarte atenți și sunt sfătuiți să consulte medicul înainte de a utiliza orteza. Dacă prezențați dureri, umflături, modificări de senzație sau în cazul în care extremitățile dvs. prezintă semne de flux sanguin insuficient (devin albastre, albe sau reci), în timp ce utilizați această orteză, întrerupeți utilizarea imediat și consultați specialistul medical.

Acest produs este conceput pentru a fi purtat direct pe piele. Nu purtați orteza direct peste o rană

العربية

دواعي الاستخدام

حالات إصابة الكوع التي قد تستفيد من الضغط، مثل:

- الألم والتوريم في الكوع
- التهاب لقيمة العضد الوسطى والجانبية (كوع لابي التنس/الجولف)

موانع الاستعمال

يجب ألا يتم استخدامها من قبل الأفراد الذين يتمتعهم الضغط من ذلك.

تحذيرات

- ينبغي عدم استخدام الدعامة لفترات زمنية طويلة، وخليعها خلال فترات الراحة الطويلة، على سبيل المثال، أثناء النوم.

على المرضى الذين يعانون بالفعل من خلل في الدورة الدموية في أطرافهم، مثل الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية أن يكونوا أكثر حذرًا ويُنصح أن يتشاوروا مع الطبيب قبل استخدام الدعامة. إذا شعرت بألم أو توريم أو تغيرات في الإحساس أو إذا ظهرت على الطرف علامات على تدفق غير كافي للدم (التحول إلى اللون الأزرق أو الأبيض أو البرودة) أثناء استخدام هذه الدعامة، عليك التوقف عن استخدامها على الفور والتشاور مع طبيبك.

تعليمات الإرتداء

- إذا كان مفاصك ما بين جحمين على مخطط الأحجام، اختر دلتًا الحجر الأصغر لافضل ارتداء.
- لتجنب إتلاف نسيج التريكو، قمر بطي أشرطة الفيلكرو مرة أخرى على نفسها.

SOBITAMISUJUHEND

Suurustabeli kahe suuruse vahel olles valida optimaalseks sobivuseks alati väiksem suurus.

Kootud kanga kahjustamise vältimiseks asetage takjakinneise rihmad oma kohtadele tagasi.

Orteza nu trebuie utilizată pentru perioade îndelungate de timp și trebuie scoasă pe parcursul perioadelor mai lungi de odihnă, de exemplu, în timpul somnului.

Pacienții cu circulația sângelui deja compromisă la nivelul extremităților, cum ar fi cei cu diabet zaharat sau boli vasculare periferice, trebuie sa fie foarte atenți și sunt sfătuiți să consulte medicul înainte de a utiliza orteza. Dacă prezențați dureri, umflături, modificări de senzație sau în cazul în care extremitățile dvs. prezintă semne de flux sanguin insuficient (devin albastre, albe sau reci), în timp ce utilizați această orteză, întrerupeți utilizarea imediat și consultați specialistul medical.

Acest produs este conceput pentru a fi purtat direct pe piele. Nu purtați orteza direct peste o rană

العربية

دواعي الاستخدام

حالات إصابة الكوع التي قد تستفيد من الضغط، مثل:

- الألم والتوريم في الكوع
- التهاب لقيمة العضد الوسطى والجانبية (كوع لابي التنس/الجولف)

موانع الاستعمال

يجب ألا يتم استخدامها من قبل الأفراد الذين يتمتعهم الضغط من ذلك.

تحذيرات

- ينبغي عدم استخدام الدعامة لفترات زمنية طويلة، وخليعها خلال فترات الراحة الطويلة، على سبيل المثال، أثناء النوم.

على المرضى الذين يعانون بالفعل من خلل في الدورة الدموية في أطرافهم، مثل الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية أن يكونوا أكثر حذرًا ويُنصح أن يتشاوروا مع الطبيب قبل استخدام الدعامة. إذا شعرت بألم أو توريم أو تغيرات في الإحساس أو إذا ظهرت على الطرف علامات على تدفق غير كافي للدم (التحول إلى اللون الأزرق أو الأبيض أو البرودة) أثناء استخدام هذه الدعامة، عليك التوقف عن استخدامها على الفور والتشاور مع طبيبك.

تعليمات الإرتداء

- إذا كان مفاصك ما بين جحمين على مخطط الأحجام، اختر دلتًا الحجر الأصغر لافضل ارتداء.
- لتجنب إتلاف نسيج التريكو، قمر بطي أشرطة الفيلكرو مرة أخرى على نفسها.

SOBITAMISUJUHEND

Suurustabeli kahe suuruse vahel olles valida optimaalseks sobivuseks alati väiksem suurus.

Kootud kanga kahjustamise vältimiseks asetage takjakinneise rihmad oma kohtadele tagasi.

Orteza nu trebuie utilizată pentru perioade îndelungate de timp și trebuie scoasă pe parcursul perioadelor mai lungi de odihnă, de exemplu, în timpul somnului.

Pacienții cu circulația sângelui deja compromisă la nivelul extremităților, cum ar fi cei cu diabet zaharat sau boli vasculare periferice, trebuie sa fie foarte atenți și sunt sfătuiți să consulte medicul înainte de a utiliza orteza. Dacă prezențați dureri, umflături, modificări de senzație sau în cazul în care extremitățile dvs. prezintă semne de flux sanguin insuficient (devin albastre, albe sau reci), în timp ce utilizați această orteză, întrerupeți utilizarea imediat și consultați specialistul medical.

Acest produs este conceput pentru a fi purtat direct pe piele. Nu purtați orteza direct peste o rană

العربية

دواعي الاستخدام

حالات إصابة الكوع التي قد تستفيد من الضغط، مثل:

- الألم والتوريم في الكوع
- التهاب لقيمة العضد الوسطى والجانبية (كوع لابي التنس/الجولف)

موانع الاستعمال

يجب ألا يتم استخدامها من قبل الأفراد الذين يتمتعهم الضغط من ذلك.

تحذيرات

- ينبغي عدم استخدام الدعامة لفترات زمنية طويلة، وخليعها خلال فترات الراحة الطويلة، على سبيل المثال، أثناء النوم.

على المرضى الذين يعانون بالفعل من خلل في الدورة الدموية في أطرافهم، مثل الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية أن يكونوا أكثر حذرًا ويُنصح أن يتشاوروا مع الطبيب قبل استخدام الدعامة. إذا شعرت بألم أو توريم أو تغيرات في الإحساس أو إذا ظهرت على الطرف علامات على تدفق غير كافي للدم (التحول إلى اللون الأزرق أو الأبيض أو البرودة) أثناء استخدام هذه الدعامة، عليك التوقف عن استخدامها على الفور والتشاور مع طبيبك.

تعليمات الإرتداء

- إذا كان مفاصك ما بين جحمين على مخطط الأحجام، اختر دلتًا الحجر الأصغر لافضل ارتداء.
- لتجنب إتلاف نسيج التريكو، قمر بطي أشرطة الفيلكرو مرة أخرى على نفسها.

SOBITAMISUJUHEND

Suurustabeli kahe suuruse vahel olles valida optimaalseks sobivuseks alati väiksem suurus.

Kootud kanga kahjustamise vältimiseks asetage takjakinneise rihmad oma kohtadele tagasi.

Orteza nu trebuie utilizată pentru perioade îndelungate de timp și trebuie scoasă pe parcursul perioadelor mai lungi de odihnă, de exemplu, în timpul somnului.

Pacienții cu circulația sângelui deja compromisă la nivelul extremităților, cum ar fi cei cu diabet zaharat sau boli vasculare periferice, trebuie sa fie foarte atenți și sunt sfătuiți să consulte medicul înainte de a utiliza orteza. Dacă prezențați dureri, umflături, modificări de senzație sau în cazul în care extremitățile dvs. prezintă semne de flux sanguin insuficient (devin albastre, albe sau reci), în timp ce utilizați această orteză, întrerupeți utilizarea imediat și consultați specialistul medical.

Acest produs este conceput pentru a fi purtat direct pe piele. Nu purtați orteza direct peste o rană

العربية

دواعي الاستخدام

حالات إصابة الكوع التي قد تستفيد من الضغط، مثل:

- الألم والتوريم في الكوع
- التهاب لقيمة العضد الوسطى والجانبية (كوع لابي التنس/الجولف)

موانع الاستعمال

يجب ألا يتم استخدامها من قبل الأفراد الذين يتمتعهم الضغط من ذلك.

تحذيرات